



سوال

(155) کیا گائے میں میت کی طرف سے حصہ ڈالا جاسکتا ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک گائے میں سات آدمی جو شریک ہوتے ہیں، ان ساتوں میں اگر بعض مردہ بھی شریک کہلیے جائیں تو درست ہے یا نہیں اور اس مردہ کے حصہ کا گوشت اس کے برادری والے کھا سکتے ہیں یا نہیں یا بالکل ہی خراب کر دیا جائے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ان ساتوں میں اگر معین مردے بھی شریک کہلیے جائیں تو جائز ہے۔ اس لیے کہ اس میں اس قدر ہونا چاہیے کہ حملہ شرک کی نیت تقرب کی ہو اور مردہ شریک کہلینے میں تقرب کی نیت فوت نہیں ہوتی اور اس مردہ کے حصے کے گوشت کا وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا حکم ہے، کیونکہ وہ بھی تو قربانی ہی کا گوشت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کتبہ: محمد عبداللہ۔

حدا ما عنہ ذی واللہ اعلم بالصواب

مجموعہ فتاویٰ عبداللہ غازی پوری

کتاب الصلاة، صفحہ: 315

محدث فتویٰ